

---

---

حضرت مولوی شیر علی صاحبؒ

---

## نام کتاب : حضرت مولوی شیر علی صاحبؒ

اشاعت باراول انڈیا 2016:  
تعداد 1000:  
ناشر نظارت نشر و اشاعت قادیانی:  
مطبع فضل عمر پرنگ پر لیں قادیان-143516:  
صلح گور داسپور، پنجاب، انڈیا

Name of Book : Hadhrat Maulvi Sher Ali <sup>rz</sup>

First Edition in India: 2016

Quantity : 1000

Publisher : Nazarat Nashr-o-Isha'at , Qadian

Printed at : Fazale Umar Printing Press,  
Qadian-143516

Dist-Gurdaspur,Punjab,India

---

# عرض ناشر

نوہالان احمدیت کی تربیت اور ان کو آسان فہم انداز میں تاریخ  
احمدیت سے واقعیت کرانے کے لئے مجلس خدام الاحمدیہ  
نے بزرگان ملت کے مختصر حالات زندگی مرتب کئے ہیں۔  
سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی اجازت و  
منظوری سے ناظرات نشوشاً نت اپنی بارکتاب ”حضرت مولوی  
شیر علی صاحب“ کو حصہ یہ قارئین کرنے کی توفیق پا رہی ہے۔  
اللہ تعالیٰ احباب جماعت کو اس کتاب سے استفادہ کی توفیق  
عطافرمائے۔ آمین

ناظر نشوشاً نت قادیان

## ”حضرت مولوی شیر علی صاحب“،

خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ایسے بہت سے وجود ساتھیوں کے طور پر عطا فرمائے جنہوں نے دنیاوی لحاظ سے اعلیٰ مقام رکھنے کے باوجود اس درکی فقیری میں فخر محسوس کیا اور اس کے مقابل پر ہر دنیوی عہدہ اور آسانش کو خیر باد کہہ دیا۔

حضرت مولوی شیر علی صاحبؒ ہی ایسے ہی بزرگ وجودوں میں سے ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن جب مسیح الزماں کے آجائے کی خبر پائی تو اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تادم آخراں سے جدا ہونا گوارہ نہ کیا۔

آپ سلسلہ کے اہم عہدوں پر فائز رہے اور اعلیٰ خدمات سرانجام دینے کی توفیق ملی۔ آپؒ کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الثاني رضی اللہ عنہ جب مرکز سے باہر تشریف لے جاتے تو آپؒ کو امیر مقرر فرمایا کرتے تھے۔

خدا تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کی نیکیوں کو قائم رکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## حضرت مولوی شیر علی صاحب

ایک مرتبہ دو انگریز قادیان آئے۔ جب وہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی کوٹھی کے شمالی جانب سے گزرے تو قریب ہی ایک بزرگ اپنی بھینسیں چرار ہے تھے۔ اور وہ نہایت سادہ لباس میں ملبوس تھے۔ ان انگریز افسروں میں سے ایک نے ان سے پوچھا کہ ہمیں ریویو آف ریلیجنز کے ایڈیٹر سے ملتا ہے وہ کس جگہ ملیں گے؟ تو بزرگ نے فرمایا: چلیے میں آپ کوان کے مکان پر لیے چلتا ہوں اور اپنے ہمراہ لا کر اپنی بیٹھک میں بٹھا کر فرمائیں۔ آپ تشریف رکھیں میں انھیں بلاتا ہوں۔

اس بزرگ کا مقصد یہ تھا کہ چائے وغیرہ تیار کروائیں۔ باتوں باتوں میں تعارف بھی ہو جائے گا لیکن انھوں نے کہا کہ ہمیں ان کے گھر پر ہی لے چلیں۔ اس پر بزرگ نے فرمایا ریویو کا ایڈیٹر میں ہی ہوں۔

وہ دونوں افسر یہ سن کر بے حد حیران ہوئے اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ اس رسالہ کا ایڈیٹر کوئی انگریز ہوگا۔

---

یہ بزرگ حضرت مولوی شیر علی صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جن کا ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔

## خاندان و پیدائش

حضرت مولانا شیر علی صاحب پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں ”ادرحمہ“ میں 24 نومبر 1857ء کو پیدا ہوئے جو تحریک بھلوال ضلع سرگودھا میں واقع ہے۔ آپ رانجھا قوم سے تعلق رکھتے تھے جو خاندان قریش کی شاخ ہے۔ آپ کا آبائی وطن موضع ”چادہ“ (متصل بھیرہ) تھا جو تحریک بھلوال میں ہی واقع ہے جہاں آپ کی جدی ملکیت تھی۔ آپ کے دادا مولوی غلام مصطفیٰ صاحب کی شادی چونکہ ”پڑھار“ قوم میں ہوئی تھی اس لیے انہوں نے اپنی لڑکی کوز میں اور مکان وغیرہ دے کر حضرت مولوی صاحب کے والد صاحب حضرت مولوی نظام الدین صاحب کو اپنے پاس ہی بلا لیا جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ چنانچہ مولوی صاحب نے یہیں جنم لیا اور بچپن کی معصوم زندگی کے شب و روز اسی گاؤں میں بسر کئے۔

## آپ کا حلیہ مبارک

حضرت مولوی صاحب کا قدمہ، رنگ گندمی، آنکھیں سیاہ چمکدار اور بڑی بڑی مگر غرض بصر کا نمونہ، چہرہ خوبصورت جو روحاں نیت کی تازگی اور نورِ فراست کا آئینہ دار تھا اور ”ان کی شناخت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان کے ذریعہ موجود ہے“ کے قالب میں ڈھلا ہوا جس پر ہر وقت تبسم کی خفیف جھلک نمایاں رہتی تھی۔ ناک ستواں

---

چہرہ پر مسنون تراش کی ریش۔ حیا کا چلتا پھرتا مجسمہ، آواز دھیمی مگر پکار میں اثر و سوزر، چال پُر وقار، سر پر سفید عمامہ، تن پر سادہ قمیض، ڈھیلا ڈھالا کوٹ، اور ہلکی شلوار جو ٹخنوں سے اوپر ہتی تھی۔ موسم سرما میں دو، دو قمیصیں بھی پہن لیتے تھے لیکن اس میں یہ خوبی تھی کہ صاف ستھرا ہوتا جس میں تکلف کی کوئی خوب نظر نہ آتی۔ پاؤں میں اکثر دلیلی جوتا ہوتا ہے، جسم نہ زیادہ بھاری بھر کم اور نہ دبلا۔

## والدین

حضرت مولوی صاحب کے والد بزرگوار اپنے گاؤں میں عالم دین کی حثیت سے نہایت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کی علمی برتری، تقویٰ و ظہارت اور صحیح دینی روح ایسے اوصاف تھے جن کے باعث ان کا نہ صرف اپنے علاقہ میں اثر و سوزر خ تھا بلکہ ارد گرد کے علاقوں اور قصبات میں بھی آپ کے پسندیدہ فضائل اور عالم دین ہونے کا بہت چرچا تھا۔

حضرت مولوی صاحب کی والدہ ماجدہ حضرت گوہربی بی صاحبہ تھوڑا ایک نہایت ذہین اور تجدیگزار خاتون تھیں۔ علوم دینیہ میں اچھی خاصی دسترس رکھنے کے علاوہ ان کو حافظہ قرآن ہونے کی سعادت بھی نصیب تھی۔ ایسے برگزیدہ والدین کی زیر نگرانی تربیت پانے والا شیر علی کیوں نہ ایک جو ہر قابل اور با خدا انسان ثابت ہوتا جب کہ ایک طرف پاکباز مال کی گود آپ کا گھوارہ تربیت تھی جس کا سینہ قرآن پاک کا خزینہ تھا تو دوسری طرف اس فاضل باب پ کی شفقت اور محبت بھری نظریں شب و روز آپ کی نگرانی

---

میں مصروف تھیں جو اس وقت علم و فضل میں ایک غیر معمولی شخصیت کا مالک تھا۔ اس لئے رشد و سعادت کے آثار بچپن سے ہی حضرت مولوی صاحب کی روشن پیشانی پر عیاں تھے۔

آپ کی والدہ نہایت ذہین اور نیک سرشت خاتون تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے خاوند حضرت مولوی نظام الدین صاحب سے پہلے احمدیت قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ چنانچہ آپ موصیہ بھی تھیں اور صحابیہ حضرت مسیح موعودؑ بھی تھیں۔ ان کی وفات 7 مارچ 1907ء میں ہوئی۔ ان کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔

یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کہ حضرت مولوی صاحب کے نانا جو خود بڑے عالم اور موضع لدھانی ضلع سرگودھا میں خاص شہرت کے مالک تھے اور آپ کے درس القرآن کا فیضِ عام جاری تھا انہی کے پاس آپ کی والدہ قرآن کریمہ پڑھا کرتی تھیں۔

ایک فوج حضرت مولوی شیر علی صاحب کے نانا صاحب نے ان لڑکوں اور لڑکیوں سے جوان کے پاس تعلیم پاتے تھے۔ دریافت کیا کہ پچھلا سبق جو میں پڑھا چکا ہوں وہ تم میں سے کون سناسکتا ہے۔ بعض نے کچھ بتایا اور بعض بتانے سے قاصر ہے۔ پھر آپ نے اپنی لڑکی (یعنی حضرت مولوی صاحب کی والدہ) سے پوچھا کہ تم کو بھی پچھلا سبق یاد ہے؟ اس پر فوراً مولوی صاحب کی والدہ صاحبہ نے جواباً عرض کیا کہ میں قاعدہ سے پڑھ کر سناؤں یا زبانی؟ اس پر انہوں نے کہا زبانی کس طرح سناسکتی ہو۔ یہ تو بہت

---

---

مشکل ہے۔ امتحان انہوں نے مختلف مقامات سے سنانے کو کھا تو انہوں نے زبانی فر弗ر سنادیا جس سے وہ ان کی ذہانت پر حیرت زدہ ہوئے اور بہت مسرت کا اظہار کیا۔ جب انہوں نے ایسا جو ہر قابل دیکھا اور قرآن ایسی نعمت کا صحیح حامل سمجھا تو انہوں نے ان کو قرآن حفظ کر دیا۔ ان کا کمال یہ تھا کہ جو ایک دفعہ پڑھ لیا وہ ذہن میں نقش ہو گیا۔ دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی تھی۔

## تعلیم

حضرت مولوی شیری علی صاحب نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی اس کے بعد آپ اپنے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالعلی صاحب کے ساتھ بھیرہ ہائی سکول میں داخل ہوئے جو ”ادرحمہ“ سے تیس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ آپ نے پرانگری بھیرہ ہائی سکول میں پاس کی۔ پانچویں کلاس کے دو سیکشن تھے، آپ چونکہ لاائق اور قابل طالب علموں میں شمار ہوتے تھے اس لئے ہر سیکشن کے استاد کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ لڑکا میرے سیکشن میں رہے۔

وظیفہ کے امتحان میں حضرت مولوی صاحب کو بھی شریک ہونا تھا۔ ممتحن کی موجودگی میں ہر دو استاذ کی اس بات پر تکرار ہو گئی۔ ایک استاد مُصر تھا کہ یہ لڑکا میرے فریق کا ہے اور دوسرے استاد کو یہ ضد تھی کہ یہ میرے فریق میں شامل ہے۔ غرض اس طرح علم کی منزلیں ذوق و شوق اور اعزاز و اکرام کے ساتھ طے

کرتے ہوئے آپ نے ۱۸۹۵ء میں اٹرنس میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور الیف سی کالج لاہور میں داخل ہوئے۔ کالج میں ہر روز قرباً آدھ گھنٹے تک انجیل کا درس ہوتا تھا جس میں کسی کو بولنے یا سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بلکہ ہر ایک طالب علم کو نہایت توجہ اور سکون کے ساتھ درس سننے کی تلقین کی جاتی تھی۔ اس لئے تمام طلباء کالج کے قوانین کے احترام کی خاطر اس عرصہ میں خاموش بیٹھنے پر مجبور ہوتے اور طوعاً یا کرھا بہر حال اس وقت کو اس انداز میں پورا کرتے کہ کالج کے نظم و ضبط میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔

حضرت مولوی شیر علی صاحب ہمہ تن گوش ہو کر نہایت غور سے انجیل کے اس درس کو سنا کرتے تھے۔ آپ چونکہ ذہین اور قابل طلباء میں شمار ہوتے تھے اس لئے آپ کو اپنے اسا تذہ کے ساتھ سیر کرنے اور مختلف علمی مباحث پر تذکرہ کا موقع بھی ملتا۔ چنانچہ ایک روز سیر کو جاتے ہوئے آپ کے ایک عیسائی پروفیسر نے تبلیغ کی غرض سے چند باتیں بیان کیں جن پر مولوی صاحب نے نہایت ٹھوس اور واقعی اعتراضات پیش کر دیئے۔ یہ سن کر پروفیسر آپ کے وسعت مطالعہ اور دقت نظر سے بہت متاثر ہوا اور آپ کی قابلیت کے باعث وہ آپ کی زیادہ قدر کرنے لگا۔

ان دنوں میں آپ کی صحت بہت کمزور تھی۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت حافظ عبدالعلی صاحب بیان کرتے ہیں کہ

”شیر علی لیٹار ہتا اور میں اس کو اس کی کتب پڑھ کر سنایا کرتا تھا،“  
چنانچہ بھائی کی کوششوں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ نے باوجود کمزوری صحت کے

---

بی۔ اے میں پنجاب بھر میں ساتویں پوزیشن حاصل کر کے نمایاں کامیابی حاصل کی۔

## آپؐ کی بیعت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق

ان دونوں احمدیت کا پنجاب کے طول و عرض میں کافی چرچا ہوا تھا۔ حضرت مولوی صاحب اس سے قبل خود بھی حضرت حکیم فضل الدین صاحب بھیروئی کی صحبت میں رہ کر احمدیت سے روشناس ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں مولوی حکیم شیر محمد صاحب جو قبول احمدیت کے نقطہ نظر سے آپؐ کے خاندان کے بانی ہیں ان کے نیک اعمال کا پروٹو بھی آپؐ پر پڑتا تھا۔ اس لئے اس مسلسل مذہبی ماحول سے حضرت مولوی صاحب کا قلب سلیم اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ پس یہی وجہ تھی کہ میستر ک سے قبل ہی احمدیت کے گھرے اثرات آپؐ کے رگ و ریشہ میں سرایت کر چکے تھے۔

بی۔ اے پاس کر چکنے کے بعد جب کہ آپؐ کا شعور کافی بیدار ہو چکا تھا اور علمی لحاظ سے بھی آپؐ تکمیل کی منازل طے کر چکے تھے صرف ایک جذبہ آپؐ کے دل کی گہرائیوں میں کارفرما تھا اور صرف ایک پاک خواہش آپؐ کے احساسات کو چھوڑ رہی تھی کہ کس طرح قادیان پہنچ کر مہدیؑ آخر الزمان کی ملاقات کی سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ آپؐ ۱۸۹۷ء میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت اقدسؐ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کر کے مستقل طور پر حضورؐ کے در کے مرید ہو کر رہ گئے۔

---

حضرت اقدسؐ مسیح موعود علیہ السلام کو آپؐ کی سادگی، نیک مزاجی اور حلم کے

---

باعث آپ سے بہت محبت ہو گئی۔ حضرت مولوی صاحب بھی اس گوہر مقصود کے مل جانے پر ایک عاشق صادق کی طرح آپ کے مقدس دامن کے ساتھ وابستگی میں فخر محسوس کرنے لگے۔ حضرت اقدس کی مقبول دعائیں آپ کو بہترین صحبت سے ہمکنار کرنے میں بھی کامیاب حرہ ثابت ہوئیں۔ چنانچہ مجزانہ طور پر نہایت سرعت کے ساتھ آپ کا صحبت کی جانب قدم بڑھنے لگا۔

ایک دفعہ نماز کے بعد آپ بیت الذکر میں لیٹے ہوئے تھے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کا بازو پکڑ کر فرمایا: ”میں تب خوش ہوں گا جب شیر علی کا بازو اس سے دو گناہ موٹا ہو جائے گا۔“ اور حضور علیہ السلام نے آپ کو دو دھپینے کا ارشاد فرمایا۔

حضور کے ارشاد پر حضرت مولوی صاحب نے پورے استقلال سے عمل شروع کیا اور بتدریج آپ کو دو دھپینے کی اتنی عادت ہو گئی کہ آپ نے روٹی کھانی ترک کر دی اور صرف دو دھپر ہی گزارہ کرنے لگے یہاں تک کہ چوبیں گھنٹہ میں آپ سولہ سیر تک دو دھپی لیتے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ مجزانہ طور پر کارگر ہوئے اور رفتہ رفتہ حضرت مولوی صاحب کے نحیف جسم میں تازگی کے آثار شروع ہو گئے اور کچھ عرصہ بعد تو واقعی آپ کا جسم دو گناہ موٹا ہو گیا۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے آپ کو عشق تھا۔ ایسا عشق جو نور ایمان اور

---

---

---

نور فراست سے لبریز تھا۔ اس عشق و محبت کی ادنیٰ جھلک حضرت مفتی صاحب کے بیان فرمودہ اس واقعہ سے بخوبی عیاں ہوتی ہے:

”ابتدائی ایام میں جب کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب ہنوز لاہور میں طالب علم تھے اور رخصتوں پر کبھی کبھی قادیان آ جاتے تھے۔ ایک ایسے ہی موقع پر احباب کی مجلس میں آپ نے نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا:

”معلوم نہیں حضرت صاحب مجھے پہچانتے بھی ہیں یا نہیں۔“ اتفاق سے اسی وقت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو حضرت حافظ حامد علی صاحب نے حضورؐ سے عرض کی کہ

”حضور مجھے آٹا پسوانے جانا ہے میرے ساتھ دوسرا آدمی جائے تو بہتر ہے۔“  
اس پر حضور علیہ السلام نے حضرت مولوی صاحب کا بازو کپڑا کر حافظ حامد علی صاحب سے فرمایا:

”میاں شیر علی کو ساتھ لے جاؤ۔“  
یہ فقرہ سن کر حضرت مولوی صاحب کی مسرت کی انتہا نہ ہی اور اس امر کا بار بار ذکر کرتے کہ حضرت صاحب مجھے پہچانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں۔“

یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات سے آپ کو عشق اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی شفقت و محبت کا نتیجہ تھا کہ جب آپ کونج بننے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے اس پاک جذبہ کے تحت کہ مبادا والد صاحب یہ چٹھی پڑھ کر مجھے وہاں جانے کے لئے

---

---

مجوہ کریں ان کو اطلاع دیئے بغیر فوراً چھٹھی کو پھاڑ دیا۔

## قادیانی ہجرت

قادیان آنے کے بعد آپ قادیان کے ہی ہور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک دور میں قادیان تشریف لائے اور پھر سوائے اس کے کہ آپ کو کسی کام کی غرض سے قادیان سے باہر بھجوادیا گیا ہوا آپ نے قادیان کی مبارک بستی سے دور ہونا گوارا نہ کیا۔ تقسیم ملک کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؑ کے حکم پر لا ہور آگئے اور وہیں پروفات پائی۔



---

## خدمات اور سیرت کے چند پہلو

### امارت کے فرائض

حضرت خلیفۃ المسح الثانی رضی اللہ عنہ جب قادیان سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ نے کئی دفعہ مرکزی مقامی امیر آپ کو مقرر فرمایا۔ بلکہ آپ کو یہ قابل رشک فخر بھی حاصل تھا کہ ۱۹۲۷ء میں جب حضور ولایت تشریف لے گئے تو بر صغیر پاک و ہند کے امیر بھی آپ ہی کو مقرر فرمایا۔

چنانچہ حضرت خلیفۃ المسح الثانی نے اس موقع پر حضرت مولوی صاحب کو امارت کے اہم منصب پر فائز کرتے ہوئے آپ کے متعلق ذیل کے الفاظ ارشاد فرمائے:

”مولوی شیر علی صاحب نہایت مخلص لوگوں میں سے ہیں اور حیاء والے آدمی ہیں۔ انتظام کے لئے سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے مگر میں دیکھتا ہوں وہ ان میں نہیں۔ باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں خلیفہ کی عدم موجودگی میں ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کے دلوں کو رکھ سکے۔ خلیفہ بطور باپ کے ہوتا ہے اور اگر ایک باپ مر جاتا ہے تو خدا تعالیٰ روحانی بچوں کو دوسرا باپ دیدیتا ہے۔ لیکن جب باپ ہوا اور موجود نہ ہو تو دل بہت نازک ہوتے ہیں اس لئے نزم

آدمی کی ہی ضرورت ہے۔“

(افضل ۲۲ جولائی ۱۹۲۳ء)

## خدمات کی توفیق

اولاً آپ میں روپیہ مشاہرہ پر تعلیم الاسلام ہائی سکول میں ہیئت ماسٹری کے عہدہ پر فائز ہوئے۔ پھر مینیجمنٹ کی خدمات نہایت حسن و خوبی سے انجام دیں۔ ریویو اف ریلیجنز کی ادارت کے زمانہ میں آپ نے نہایت اعلیٰ مضامین سے معارف کا گلشن بکھیر دیا۔ ناظر تالیف و تصنیف مقرر ہوئے تو علاوہ دیگر فرائض کی انجام دہی کے ”اسلام میں ارتدا دی سزا“ کے متعلق ایک اعلیٰ پائے کی کتاب لکھ کر ایک ایسا ٹھوں کام کیا جو دینی دنیا میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ کچھ عرصہ ناظر اعلیٰ بھی رہے۔ انصار اللہ کے سب سے پہلے صدر بھی آپ ہی تھے۔ پھر آپ کی زندگی مختلف ادوار سے گذرتی ہوئی اس منزل پر آپ کچھ جس سے آپ کو طبعی مناسب تھی یعنی قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ اور اس کی تفسیر کا کام جسے آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک نہایت خوبی اور تندی سے ادا کرتے رہے۔ آپ نے اس مہتمم بالشان کام کی تکمیل کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ اگر ایک طرف آپ نے خدا کے آستانہ پر گر کر مدد طلب کی تو دوسری طرف اپنی ذہنی کاؤشوں کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا۔

## خدا تعالیٰ سے محبت

خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے رگ وریثہ میں اس طرح سرایت کئے ہوئے تھی

جیسے پھولوں میں خوشبوی سی ہوتی ہے۔ جس مجلس میں آپ تشریف فرماتے آپ کے تقدس کی تائی شیرات سے وہ معطر ہو جاتی اور آپ کو ایک نظر دیکھ کر ہر شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ مجلس میں اور فارغ اوقات میں آپ کی زبان ذکر اللہ سے ہمیشہ معمور رہتی۔ پاس بیٹھنے والا انسان آپ کی تسبیح و تمجید و تبھید کو بخوبی سن سکتا تھا۔ یہ آپ کا عزیز ترین مشغلہ تھا۔ اگر آپ کی تمام زندگی کا مختصر ترین الفاظ میں تجزیہ کیا جائے تو ہمیں ”محبت اللہ“ سے بہتر الفاظ نہیں ملتے۔

### رسول کریم ﷺ سے محبت

حضرت مولوی صاحب عشق و محبت کے ایسے مجسمہ تھے کہ آپ کی ہر حرکت و سکون میں ہمیں حضرت رسول اکرم ﷺ کے ارشادات کا مکمل عکس نظر آتا ہے۔ اگر کسی سے خفیف سے خفیف کوتاہی سرزد ہوتی تو آپ کی دور بین نگاہیں فوراً اسے بھانپ لیتیں اور جب تک سنت رسول کریم ﷺ کے مطابق اس سے وہ عمل نہ کرا لیتے آپ کو حقیقی سکون نصیب نہ ہوتا۔ آپ کو ہر موقع کی دعا میں از بر تھیں جن سے آپ کی روح کو غذا ملتی تھی۔ آپ کی حتی الامکان یہ آرزو اور کوشش ہوتی تھی کہ میرا ہر عمل آپ کی متابعت میں ہو۔

اس ضمن میں آپ کی صاحبزادی محترمہ رقیب نیکم صاحبہ بیان کرتی ہیں:

مجھے اچھے اچھے ناموں سے بچپن سے ہی پیار تھا اور اپنا نام مجھے بھدا معلوم ہوتا

---

تھا۔ ایک روز میں نے اباجی سے شکوہ کیا کہ آپ نے میرا نام کیسا رکھ دیا ہے۔ دوسروں کے کتنے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں۔ اباجی فرمانے لگے حضرت رسول کریم ﷺ نے اپنی بیٹی کا نام رقیہ رکھا تھا۔ میرے دل پر اس بات کا کچھ ایسا اثر ہوا کہ اُس بات کا خیال ہی جاتا رہا۔

## عشق مسیح موعود علیہ السلام

ایک دوست نے بیان کیا کہ ایک دفعہ جمعرات کے دن میں نے حضرت مولوی شیر علی صاحب کو دیکھا کہ آپ مسجدِ قصیٰ کے پرانے حصہ کے ایک ستون سے بازو کا سہارا لئے کافی دیر تک اشکبار رہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی گھرے درد سے آنسو خود بخود بے اختیاری کے عالم میں گرتے جا رہے ہیں۔ دوسرے روز جمعہ کے دن حضرت مولوی صاحب نے خود ہی اپنے اس طرح رونے کی وجہ بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اسی ستون کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ مجھے اس زمانہ کی یاد نے تڑپا دیا اور ضبط نہ کر سکا اس لئے آبدیدہ ہو گیا۔

## امام سے محبت

مکرم مولوی تاج الدین صاحب آف لاکپور بیان کرتے ہیں۔ غالباً ۱۹۲۵ء کا ذکر ہے جب کہ میں مبلغین کلاس میں تعلیم پا رہا تھا ایک روز میں اپنے استاد حضرت حافظ روشن علی صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کی کتاب

---

”احمدیت یعنی حقیقی اسلام“ سنار ہاتھا پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پنچھا جملنے کے الفاظ آئے تو حضرت حافظ صاحب نے استفسار کے رنگ میں دریافت فرمایا کہ کیا ”پنچھا جملنا“، اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ میں نے علمی کا اظہار کیا تو فرمایا کہ مولوی شیر علی صاحب سے پوچھا آئیں۔

حضرت مولوی صاحب ان دنوں قریب ہی لا بہری کے ایک کمرے میں تحریری کام کیا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس محاورے کے اردو میں استعمال ہونے کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا:

”میں تواردو میں سندھیں ہوں“ ذرا توقف کے بعد فرمایا کہ

”جب حضرت صاحب نے یہ محاورہ استعمال کیا ہے تو اگر اردو میں اس سے قبل نہ بھی بولا جاتا ہو تو بھی اب یہ محاورہ بن گیا ہے۔“

## اطاعت امام

ایک دوست روایت کرتے ہیں۔

حضرت مولوی صاحب کے دل میں حضرت (خلیفۃ المسیح) کے احکامات کو اولین فرصت میں بجالانے کی ترڑپ تھی۔ ایک دفعہ حضور نے سمووار اور جمعرات کے روز روزہ رکھنے کی جماعت کو ہدایت فرمائی۔ حضرت مولوی صاحب کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے داماد چوبدری ولی محمد صاحب مرحوم کے چھوٹے بچوں کو بھی سحری کے وقت جگا دیا کرتے۔ ایک روز میں نے حضرت مولوی صاحب سے عرض کیا کہ ان

---

چھوٹے بچوں کو جگانے کا کیا فائدہ؟ حضرت مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان میں سے جب کوئی روتا ہے تو اس طرح حضور کے حکم کی تعمیل میں شریک ہو جاتا ہے۔

## خاندان حضرت مسیح موعودؑ کا احترام

مکرم وحید الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے ایام میں خاکسار چند احباب کے ہمراہ ریتی چھلہ (قادیانی میں ایک جگہ) میں حضرت مولوی صاحب کے پاس کھڑا تھا۔ آپ ایک کرسی پر تشریف فرماتھے کہ آپ فوراً ”میاں صاحب آگئے“۔ ”میاں صاحب آگئے“ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ پہلی نظر میں ہم تو نہ دیکھ سکے لیکن جب غور سے دیکھا تو کافی فاصلہ سے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بڑے بازار سے تشریف لاتے دکھائی دیئے۔ یہاں تک کہ حضرت میاں صاحب مولوی صاحب کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ سے مصافحہ فرمایا اور مختصر سی گفتگو کے بعد جلسہ گاہ کی طرف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت مولوی صاحب کری پر تشریف فرما ہوئے۔

## آپ کی سیرت کے چند پہلو

مکرم ڈاکٹر عطر دین صاحب درویش قادیانی بیان کرتے ہیں کہ ۱۹۳۶ء کا ذکر ہے جب حضرت مولوی شیر علی صاحب ترجمۃ القرآن کے سلسلہ میں ولایت تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے چند روز بمبئی میں قیام فرمایا۔ میں بھی وہیں تھا اس موقع پر میں نے آپ کو ٹرام (tram) وغیرہ کے کرایہ کے لئے مبلغ پانچ

---

---

روپے دیئے۔

اس بات پر کئی سال گزر گئے جب حضرت مولوی صاحب فوت ہوئے تو اس کے کچھ دن بعد آپ کے بڑے صاحبزادے کی طرف سے مجھے خط موصول ہوا کہ ابا جان مجھے وصیت کر گئے ہیں کہ پانچ روپے آپ کو ادا کر دیئے جائیں اس لئے آپ وہ رقم مجھ سے لے لیں۔ گوئیری طبیعت نہ چاہتی تھی لیکن پھر ان کے اصرار پر میں نے وہ رقم ان سے لے لی۔ اس واقعہ کا اب تک میرے دل پر گہرا اثر ہے۔

مکرم مولا نامہ شفیع اشرف صاحب بیان کرتے ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں ایک مرتبہ میں نے حضرت مولوی شیر علی صاحب سے انگریزی پڑھانے کی درخواست کی جسے آپ نے بخوبی منظور فرمالیا۔ مزید بیان کرتے ہیں:

”آپ ان دنوں دارالانوار کے (گیست ہاؤس) میں ترجمۃ القرآن کا کام کرتے تھے میں بھی وہیں چلا جایا کرتا تھا۔ ایک روز باہر سے کوئی رسالہ آیا اس کے پتے والے کاغذ پر ایک ٹکٹ ایسا بھی تھا جس پر ڈاک خانہ کی مہر نہیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے حضرت مولوی صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ اس ٹکٹ پر مہر نہیں ہے۔ آپ اگرچہ اس کاغذ کو رد کی ٹوکری میں پھینک چکے تھے لیکن میرے اشارہ کرنے پر آپ

---

---

نے اس ٹکٹ کو چاک کرتے ہوئے فرمایا۔ کہ ”اس ٹکٹ سے جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے۔“

## وفات

1945ء میں آپ کو بندشِ پیشاب کی تکلیف ہوئی۔ اس کے علاج کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؑ کے ارشاد پر آپ پیش کیا گیا جس سے ایک دفعہ تو افاقہ محسوس ہوا لیکن باس ہمہ کھانسی شروع ہو گئی اور کھانسی کا علاج کرنے پر اسہال شروع ہو گئے اور انہیں بیماریوں کے نتیجہ میں 13 نومبر 1947ء کو لا ہور میں وفات پائی۔ اولاً آپ کی امامتؑ تدفین لا ہور میں ہوئی بعد ازاں ہشتی مقبرہ ربوہ کے آغاز پر حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؑ کے ارشاد پر آپ کا جسد خاکی ربوہ منتقل کر دیا گیا۔ آپ کی ایک صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ کا ورد آپ کی زبان پر جاری تھا۔

